

سورۃ اسپر ایجوکل ڈیکلیمیشن منقذہ ۱۵ اکتوبر ۲۰۱۳ء میں - صدر جمہوریہ کا بیچ دن کا خوب

- ① خدایے ان انسانوں میں دعائی ہوئی ہے :
- ② " اور ان لوگوں کی رہنمائی کر کہ وہ دوسروں کے تقویات کا احترام کریں - " (ڈیکلیمیشن اردو ترجمہ ص ۲۶)
- ③ " مذہب صحیح مسنون میں نہایت عمدہ باغ ، بہ مثال خوبصورتی و نشانی کی جگہ ، مقدس بیڑوں کے جھنڈ جو کہ خوبصورت پرندوں سے بھرے ہوئے ہوں اور ان کے پیچھے گیت کی طرح ہیں۔ مذہب خوبصورت چینی ہیں۔ " (الفیاض ص ۲۸)
- ④ " ہر مہینہ ہندوستان کے مختلف حصوں میں متعدد مذہبی اجتماع کا انعقاد کرنا نامہ مختلف مذہب کا پیغام عام انسانوں تک پہنچایا جاسکے اور اس خطے کے مذہبی دروہانی پیشوا اس اجتماع میں شریک ہو سکیں۔ " (جس میں یہ بھی شامل ہے کہ " لوگوں کی رہنمائی کر کہ وہ دوسروں کے تقویات کا احترام کریں۔ واضح اور مفید )
- ⑤ " کوئی ایسے مہا خاص دن منقذ کرنا جو کہ مختلف مذہب کے اعتبار سے وہ مہینہ کا مقدس دن ہو جسے اسلام ، ہندو ، عیسائی ، سکھ پارسی ، جینی ، بدھ ~~مذہب~~ مذہب وغیرہ کا مقررہ مقدس دن " (الفیاض ص ۲۸)
- ⑥ " عوام خود اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ مختلف مذہب اس سمت میں متحد ہو کر اس کام کو کر رہے ہیں۔ ایسی کوشش کرنے سے لوگوں کے دل و دماغ میں سارے مذہب کا عزت و احترام اور ایک کو متحد و مستحکم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکیں " (الفیاض ص ۲۹)
- ⑦ " ملک کے سارے مذہبی تعلیمی ادارے جو کہ ملک کے مختلف حصوں میں کام کر رہے ہیں۔ وہ دوسرے مذہب کے بچوں کی کچھ تعداد کو اپنے مذہبی اداروں میں داخل کرالیں۔ " (الفیاض ص ۲۹)

The real purpose and the Unity of religions should be embedded in the minds of the students (Page 16)

اس کا غلو ترجمہ ان انسانوں میں کیا گیا ہے

" تاکہ اعتدال ، سچائی و حق کے اقدار کو بچوں میں ذہن نشین کر سکیں۔ " (الفیاض ص ۲۹)

اس کا صحیح ترجمہ سرفہر زمانہ ہیں

" حقیقی مقصد اور وحدت ادیان کو علماء کے ذہنوں میں مضبوطی سے جمایا جائے۔ "

④ ایک اور شرفناک غلو ترجمہ سرفہر زمانہ ہیں !

In addition these values have to be reinforce in every citizen through specific projects, which can bring people to-gether , irrespective of their social level or religious beliefs (Page 15)

اس کا ، ان انسانوں میں غلو ترجمہ کیا گیا ہے :